



سوال

(541) نماز تراویح میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز تراویح میں امام کے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی کتاب و سنت سے کیا دلیل ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح مقتدیوں کو سارا قرآن مجید سنایا جاسکے گا۔ کتاب و سنت کے شرعی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی قراءت کی جائے اور یہ حکم عام ہے قرآن مجید سے دیکھ کر اور زبانی قراءت سبھی کو شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو حکم دیا کہ وہ قیام رمضان میں ان کی امامت کروائیں اور ذکوان قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی "صحیح" میں (صحیح بخاری کتاب الاذان باب امامۃ العید ولہوئی قبل حدیث: 692) مطلقاً مگر صحت کے پورے وثوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

حدا ما عنہم والحمد للہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 442

محدث فتویٰ